

## Qur'anic Mission

## قرآن کا مقصد

1. اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًا ۖ تَقَشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۖ

اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی اور دہرائی جاتی (ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے روٹگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہو کر) اللہ کی یاد کی طرف (متوجہ) ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ﴿39: Az-Zumar﴾

Allah has revealed the best of scriptures a Book, consistent yet repeating (its teachings) the skins of those who fear their Lord, tremble there at, then their skins and their hearts soften to Allah's remembrance. Such is the guidance of Allah: He bestows it on whom He pleases, but such as Allah leaves to stray, can have none to guide. ﴿39: Az-Zumar﴾

2. وَكَفَدُ صَرْبِنًا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۖ

اور ہم نے لوگوں کے (سمجھانے کے) لئے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں ﴿یہ قرآن عربی (ہے) جس میں کوئی عیب (اور اختلاف) نہیں تاکہ وہ ڈرمانیں۔﴾

(39: Az-Zumar\27-28)

We have put forth for mankind, in this Qur'an every kind of parable, in order that they may receive admonition. ﴿A Qur'an in Arabic, without any crookedness: in order that they may guard against evil.﴾

(39: Az-Zumar\27-28)

3. هَٰذَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۖ

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ﴿

(3: ۱۳۸/\_)

This is a clear statement for people and guidance and an admonition to those who guard (against evil). ﴿3:A'1-e-Imran\138﴾

4. كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿

(یہ) کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل

عقل نصیحت پکڑیں۔ ﴿38: f / ۲۹﴾

A Book We have revealed to you abounding in good that they may ponder over its verses, and that those endowed with understanding may be mindful. ﴿38: Sa'ad\29﴾

5. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿

اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیئے ہیں

تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لئے نصیحت پیدا کر دے۔ ﴿20: p / ۱۱۳﴾

Thus have We sent this down - an Arabic Qur'an - and explained therein in detail some of the warnings, in order that they may fear Allah, or that it may be a reminder for them. ﴿20: Ta Ha\113﴾

6. وَكَفَدَّ صَرْفِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قَابِلِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿

اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں۔ مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا

قبول نہ کیا۔ ﴿17: بنی اسرائیل \ m / ۸۹﴾

And We have explained to mankind, in this Qur'an, every kind of similitude: yet most of men refuse except with ingratitude! ﴿

(17: Bani Israeal / Al-Isra\89)

7. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿

لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت اور

رحمت آ رہی ہے۔ ﴿10: f / ۵۷﴾

O mankind! There has come to you a direction from your Lord and a healing for what is in your hearts,- and for believers, a guidance and a mercy. ﴿10: Yunas\57﴾

8. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿

اور ہم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایاں ہے۔ یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن (پُر از حکمت) ہے ﴿﴾ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ ﴿﴾

(36: j / 69-67)

We have not taught him poetry, nor is it worth him. This is not, but a reminder and a Qur'an making things clear: ﴿﴾ that it may give admonition to the alive, and that the word may be proved against disbelievers. ﴿﴾

(36: Ya-Sin\69-70)

9. طس ت تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هَدَىٰ وَبَشَّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿﴾

طس۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں ﴿﴾ مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ﴿﴾ وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ﴿﴾ (27: w / 1-3)

Ta Seen. These are verses of the Qur'an, -a book that makes clear. ﴿﴾

A guide and glad tidings for the believers. ﴿﴾ Those who establish prayers and give Zakat (regular charity), and firmly believe in the hereafter. ﴿﴾

(27: An-Naml\1-3)

10. طه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَىٰ ۝ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۝ تَنْزِيلًا مِّنْ حَقِّكَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ﴿﴾

طہ ﴿﴾ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ﴿﴾ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لئے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے ﴿﴾ یہ اس (ذات برتر) کا اتار اہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ ﴿﴾ (20: p / 1-3)

Ta-Ha. ﴿﴾ We have not sent down the Qur'an to you for your distress, (2) But only as an admonition to those who fear (Allah), - ﴿﴾ A revelation from Him Who created the earth and the lofty heavens. ﴿﴾

(20: Ta-Ha\1-4)

11. إِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۝ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿﴾

(اے پیغمبر) ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات میں

فیصلہ کریں اور دعا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کریں ﴿﴾ اور اللہ سے بخشش مانگنے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ﴿﴾ (4: 105-106)

We have sent down to you the Book in truth, that you might judge between people, as guided by Allah: so be not an advocate of those who betray their trust; ﴿﴾ But seek the forgiveness of Allah; for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. ﴿﴾ (4: An-Nis'a\105-106)

12. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿﴾

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخر الزماں) آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے ﴿﴾ جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ ﴿﴾ (5: 15/a)

O people of the Book! There has come to you our Messenger, revealing to you much that you used to conceal of the Book, and passing over much: There has come to you from Allah a light and a clear Book, - ﴿﴾ Wherewith Allah guides all who seek His good pleasure to ways of peace and safety, and leads them out of darkness, by His will, to the light, - guides them to a path that is straight. ﴿﴾ (5: Al-Maidah\15-16)

13. الرَّافِعُ كِتَابٍ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿﴾ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ ﴿﴾ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿﴾

الرافع - (یہ) ایک (پُر نور) کتاب (ہے) اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں (یعنی) ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف (اللہ) کے رستے کی طرف ﴿﴾ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور کافروں کے لیے عذاب سخت (کی وجہ) سے خرابی ہے۔ ﴿﴾ (14: 1/j)

Alif Lam Ra'a. A Book which We have revealed to you, in order that you might lead mankind out of the depths of darkness into light - by the

permission of their Lord - to the path of (Him) the Mighty, Worthy of all praises!- ﴿ The path Of Allah, to Whom belongs all that is in the heavens and the earth and woe to disbelievers for a terrible punishment. ﴿

(14: Ibrahim\1-2)

14. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے اجر عظیم ہے ﴿ اور یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ﴿ (17: بنی اسرائیل \ 9-10)

Verily this Qur'an does guide to that which is most right and gives the glad tidings to the believers who do good deeds, that they shall have a magnificent reward; ﴿ And to those who believe not in the Hereafter, We have prepared for them a grievous penalty. ﴿

(17: Bani Israeal / Al-Isra\9-10)

15. وَكَتَدَّ صَرْفَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا ط وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴿

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں گے۔ مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔ ﴿ (17: بنی اسرائیل \ 41)

We have explained things in various ways in this Qur'an, so that they may receive admonition, but it only increases their aversion. ﴿

(17: Bani Israeal / Al-Isra\41)

16. وَكُوَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ط أَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ط وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں (نازل) کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں (ہماری زبان میں) کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں۔ کیا (خوب کہ قرآن تو) عجمی اور (مخاطب) عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے (یہ) ہدایت اور شفا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی (یعنی بہر اپن) ہے اور یہ ان کے حق میں (موجب) ناپیدائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو (گویا) دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ ﴿

(41: حم \ 1\41)

Had We sent this Qur'an in other than Arabic, they would have said: "Why are not its verses explained in detail? A foreign language and an Arab

Messenger?" Say: "It is a guide and a healing to those who believe; and for those who believe not, there is deafness in their ears, and blindness in their (eyes): They are (as it were) being called from a place far distant!" ﴿

(41: Ha-Meem As-Sajdah / Fussilat\44)

17. هَذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿

یہ قرآن لوگوں کے نام (اللہ کا پیغام) ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ ﴿ (14: j / ۵۲)

This is a clear message for mankind: Let them heed thereby and let them know that He is the only God: let people of understanding be mindful. ﴿

(14:Ibrahim\52)

18. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿

اور (لوگو) یہ (قرآن) اہل عالم کے لئے نصیحت ہے۔ ﴿ (68: A / ۵۲)

This is not but a reminder for the worlds. ﴿ (68: Al-Qalam\52)

19. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿

کہہ دیں کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے۔ اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ﴿ اور (اے پیغمبر) آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کئے جائیں اور (تکلیفوں پر) صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿ (10: f / 108-109)

Say: O people! indeed there has come to you the truth from your Lord, therefore whoever goes aright, he goes aright only for the good of his own soul, and whoever goes astray, he goes astray only to the detriment of it, and I am not a custodian over you ﴿ And follow what is revealed to you and be patient till Allah should give judgment, and He is the best of the judges. ﴿ (10: Yunas\108-109)

20. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿

یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے ﴿ (یعنی) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا

﴿ چاہے۔ ﴿

(81: 27-28/Ď)

Verily this is not but a reminder to all the Worlds: ﴿﴾ To those among you who wills to be right. ﴿﴾ (81: At-Takweer\27-28)

## Qur'an's Challenge

## قرآنی دعویٰ

1. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿﴾

اور اگر تم کو اس (کتاب) میں، جو ہم نے اپنے بندے (محمد ﷺ عربی) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لو اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو ﴿﴾

(2: 23/2)

And if you are in doubt as to what We have revealed from time to time to Our servant, then produce a 'Sura' like thereto; and call your witnesses or helpers besides Allah, if you are truthful. ﴿﴾

(2: Al-Baqarah\23)

2. قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُلُّهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ ﴿﴾

کہہ دیں کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں۔ ﴿﴾ (17: 88/m \ بنی اسرائیل)

Say: "If the whole of mankind and jinns combine to produce the like of this Qur'an, they will fail to produce the like thereof, even if they help each other. ﴿﴾ (17: Bani Israeal / Al-Isra\88)

3. وَكَوْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿﴾

اور اگر ہم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو (صاف اور) صریح جادو ہے۔ ﴿﴾ (6: 4/b)

If We had sent to you a writing on parchment, so that they could touch it with their hands, the unbelievers would have been sure to say:

"This is nothing but obvious magic!" ﴿﴾ (6: Al-Ana'm\7)

4. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ ۖ وَكَوْنُ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿﴾

بجھایہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا (کلام) ہوتا تو اس میں (بہت سا) اختلاف

پاتے۔ ﴿4: ۸۲/۱﴾

Do they not meditate the Qur'an? Had it been from other than Allah, they could surely have found therein many discrepancies. ﴿4: An-Nis'a\82﴾

(4: An-Nis'a\82)

مسلمانوں پر قرآن کے متعلق کے فرائض

### Muslim's Obligations Towards Qur'an

1. اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

(اے محمد ﷺ! یہ) کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کریں۔ ﴿﴾

(۲۹: ۴۵/ y)

Recite what has been revealed to you of the Book. ﴿﴾

(29: Al- Ankabut\45)

2. فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

پس جتنا آسانی سے ہو سکے (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو۔ ﴿﴾ (73: ۲۰/ E)

Recite from the Qur'an as much as may be easy for you. ﴿﴾

(73: Al-Muzzammil\20)

3. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿﴾

اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ ﴿﴾ (16: ۹۸/ I)

When you do read the Qur'an, seek refuge in Allah from Satan- the rejected. ﴿﴾ (16: An-Nahl\98)

4. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿﴾

اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ﴿﴾

(7: ۲۰۴/ c)

And when the Qur'an is recited, then listen to it and remain silent, that mercy may be shown to you. ﴿﴾ (7: Al-A'ra'af\204)

5. وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿﴾

اور یہ کتاب بھی ہمیں نے اتاری ہے برکت والی تو اس کی پیروی کرو اور (اللہ سے) ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی

جائے۔ ﴿﴾ (6: ۱۵۵/ b)



And this is a Book which We have revealed as a blessing: so follow it and be righteous, that you may receive mercy: ﴿6: Al-Ana'm\155﴾

6. **وَإِتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بُغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٦﴾**  
 اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی (کتاب) کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ﴿39: Az-Zumar\55﴾

And follow the best that has been revealed to you from your Lord before there comes to you the punishment all of a sudden while you do not even perceive; ﴿39: Az-Zumar\55﴾

7. **إِتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ط قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾**  
 جو (کتاب) تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ ﴿7: Al-A'raaf\3﴾

Follow what has been revealed to you from your Lord and do not follow guardians besides Him, how little do you mind. (7: Al-A'raaf\3)

8. **إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨﴾**  
 اور جو حکم آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کریں۔ اس (پروردگار) کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ ﴿6: Al-Ana'm\106﴾

Follow what is revealed to you from your Lord; there is no God save Him; and withdraw from the polytheists. ﴿6: Al-Ana'm\106﴾

9. **كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَ بَرًّا وَآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾**  
 (یہ) کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ ﴿38: Saad\29﴾

(It is) a Book We have revealed to you abounding in good that they may ponder over its verses, and that those endowed with understanding may be mindful. ﴿38: Saad\29﴾

10. **وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾**  
 اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ﴿6: Al-Ana'm\155﴾

And when you see those who enter into false discourses about Our communications, withdraw from them until they enter into some other discourse, and if the Satan causes you to forget, then do not sit after recollection with the unjust people. ﴿6:Al-Ana'm\68﴾

11. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى

يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۖ

اور اللہ نے تم (مؤمنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سناؤ کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں۔ ان کے پاس مت بیٹھو۔ ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ﴿4: 140﴾

And indeed He has revealed to you in the Book that when you hear Allah's revelations disbelieved in and ridiculed; do not sit with them until they enter into some other discourse; indeed then you would be like them; surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell. ﴿4:An-Nis'a\140﴾

12. فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو (اس کی پیروی کرنا کہ) جنہوں نے میری ہدایت کی

پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ﴿2: 38﴾

And if, as is sure, there comes to you guidance from Me, whosoever follows My guidance, on them shall be no fear, nor shall they grieve. ﴿

(2: Al-Baqarah\38)